

سمیع الحق

۳۵۲۱

۹۸.



باسمہ تعالیٰ

محترم جناب مفتی صاحب جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

نماز کی ادائیگی میں شامل ہر وہ چھوٹی- بڑی، سنن- فرائض کی معلومات دینے کی مہربانی کریں یا پھر کوئی ایسی کتابوں کے نام بتادیں جس میں نماز کی ادائیگی کی ساری باتیں موجود ہوں، نماز ادا کرتے وقت ان کی ادائیگی بہت سستی ہے اور جس سے اداء نماز کے بعد نماز کی ادائیگی سے مطمئن، لطف اندوز نہیں ہو پاتا ہو، مہربانی کر میری اس درخواست پوری کی جائے۔ شکریہ

سائل: ذی شان احمد

QuaziZeeshan Ahmad <quazizeeshanahmad1ofindian@gmail.com>

جواب مسئلہ صفحہ پیر علاحدہ فرمائیں

## الجواب حامد او مصليا

واضح رہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے سات چیزوں کی ضرورت ہے جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ان چیزوں کو شرائط اور فرض کہتے ہیں، وہ سات چیزیں یہ ہیں:

اول بدن کا پاک ہونا۔ دوسرا کپڑوں کا پاک ہونا۔ تیسرا جگہ کا پاک ہونا۔ چوتھا ستر کا پاک ہونا۔ پانچواں نماز کا وقت ہونا۔ چھٹا قبلہ کی طرف منہ کرنا، ساتواں نیت کرنا۔

اور چھ چیزیں فرض ہیں:

اول تکبیر تحریمہ کہنا۔ دوسرا قیام (کھڑا ہونا) تیسرا قراءت (یعنی قرآن مجید پڑھنا) چوتھا رکوع کرنا۔ پانچواں دونوں سجدے، چھٹا قعدہ اخیرہ یعنی نماز کے اخیر میں التحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا۔

اور واجبات نماز چودہ ہیں:

۱۔ فرض نمازوں کی پہلی دور کعتوں کو قراءت کے لیے مقرر کرنا  
۲۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔  
۳۔ فرض نمازوں کی پہلی دور کعتوں میں اور واجب، سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی ایک آیت یا چھوٹی تین آیتیں پڑھنا۔

۴۔ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔

۵۔ قراءت، رکوع اور سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا۔

۶۔ قومہ کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا۔

۷۔ جلسہ، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھ جانا۔

۸۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا۔

۹۔ قعدہ اولیٰ یعنی تین اور چار رکعت والی نماز میں دور کعتوں کے بعد تشهد کی مقدار بیٹھنا۔

۱۰۔ دونوں قعدوں میں تشهد پڑھنا۔


۱۱۔ امام کو فجر مغرب عشاء جمعہ عیدین تراویح اور رمضان شریف کے وتروں میں آواز سے قراءت کرنا، اور

ظہر عصر وغیرہ نمازوں میں آہستہ پڑھنا۔

۱۲۔ لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا۔

۱۳۔ نماز وتر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔

۱۴۔ دونوں عیدوں کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا۔



اور نماز میں اکیس سنتیں ہیں:

- ۱۔ تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔
- ۲۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر کھلی اور قبلہ رخ رکھنا۔
- ۳۔ تکبیر کہتے وقت سر کو نہ جھکانا۔
- ۴۔ امام کا تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی تمام تکبیریں بقدر حاجت بلند آواز سے کہنا۔
- ۵۔ سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے بانٹھنا۔
- ۶۔ ثنا پڑھنا۔ ۷۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ۔ ۸۔ سبحان اللہ پڑھنا۔ ۹۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا۔ ۱۰۔ آمین کہنا۔ ۱۱۔ تعوذ، بسم اللہ اور آمین سب کو آہستہ پڑھنا۔
- ۱۲۔ سنت کے موافق قراءت کرنا یعنی جس جس نماز میں جس قدر قرآن مجید پڑھنا سنت ہے اس کے موافق پڑھنا۔

۱۳۔ رکوع اور سجدے میں تین تین بار تسبیح پڑھنا۔

- ۱۴۔ رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں برابر رکھنا اور دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا۔
- ۱۵۔ قومہ میں امام کو سمع اللہ من حمدہ اور منقذی کو ربنا لک الحمد کہنا، اور منفرد کو تسبیح اور تحمید دونوں کہنا۔
- ۱۶۔ سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے پھر دونوں ہاتھ پھر پیشانی رکھنا۔
- ۱۷۔ جلسہ اور قعدہ میں بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا، اور سیدھے پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف رہیں، اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا۔
- ۱۸۔ تشهد میں اشھدان لا الہ الا اللہ کی انگلی سے اشارہ کرنا۔ ۱۹۔ قعدہ اخیرہ میں تشهد کے بعد درود پڑھنا۔
- ۲۰۔ درود کے بعد دعا پڑھنا۔ ۲۱۔ پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا۔

اور نماز میں پانچ چیزیں مستحب ہیں:

- ۱۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت آستینوں سے دونوں ہتھیلیاں نکال لینا۔
- ۲۔ رکوع، سجدے میں منفرد کو تین مرتبہ سے زیادہ تسبیح کہنا۔ ۳۔ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر، اور رکوع میں قدموں کی پیٹھ پر اور جلسہ اور قعدہ میں اپنی گود پر اور سلام کے وقت اپنے کندھوں پر نظر رکھنا۔
- ۴۔ کھانسی کو اپنی طاقت بھر نہ آنے دینا۔ ۵۔ جمائی بیٹھنا منہ بند رکھنا، اور کھل جائے تو قیام کی حالت میں سیدھے ہاتھ اور باقی حالتوں میں بائیں ہاتھ کی پشت سے منہ چھپا لینا۔



ماخوذ: تعلیم الاسلام از مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ص ۱۲۰-۱۲۲ ط، بشری  
اس کے علاوہ مزید تفصیل کے لیے مندرجہ ذیل کتب سے مراجعت فرمائیں۔

آسان نماز از مولانا عاشق الہی بلند شہریؒ

نماز حنفی از مولانا خیر محمد جالندھریؒ

نماز مدلل از مولانا فیض احمد ملتانیؒ

کتاب نماز از مولانا عبدالرحمن خان میواتی۔



فقط اللہ اعلم

کتب

سمیع الحق چلاسی

مختص فقہ اسلامی

جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد

یوسف بنوری

ٹاون کراچی ۵

۱۳-۵-۱۴۴۰ھ

۲۰-۱-۲۰۱۹ء

محمد  
سید  
۱۴  
۵  
۲۰

